



سوال

(935) دوران سفر مکمل نماز

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

کیا اس میں احتیاط نہیں کہ سفر میں قصر لازمی کر لیا جائے۔ احادیث سے تو وجوب ہی ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے ذریعے سفر میں دو رکعت نماز فرض کی ہے۔ (صحیح مسلم، باب صَلَاةَ الْمَسَافِرِینَ وَقَصْرًا، رقم: ۶۸۷) (مسلم) نواب صدیق حسن خاں بھوپالی بھی وجوب کے قائل ہیں۔ (دلیل الطالب ص ۳۷۸، ۳۷۹)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

جملہ دلائل کو جمع کیا جائے تو نتیجہ یہی اخذ ہوتا ہے، کہ قصر واجب نہیں۔ مطولات (مفصل کتب) میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوة: صفحہ: 776

محدث فتویٰ